

AGE GROUP 10-12



TILAWAT-E-QUR'AN

SURAH AL-BAQARAH

(Chapter 2 Verse 31)

31. And when thy Lord said to the angels: 'I am about to place a vicegerent in the earth,' they said: 'Wilt Thou place therein such as will cause disorder in it, and shed blood? and we glorify Thee with Thy praise and extol Thy holiness.' He answered: 'I know what you know not.'

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى
الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِىْهَا مَنْ
يُّفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ
نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْ
اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۱﴾

SURAH ALE-IMRAN

(Chapter 3 Verse 104)

104. And hold fast, all together, by the rope of Allah and be not divided; and remember the favour of Allah which He bestowed upon you when you were enemies and He united your hearts in love, so that by His grace you became as brothers; and you were on the brink of a pit of fire and He saved you from it. Thus does Allah explain to you His commandments that you may be guided.

وَاعْتَصِمُوْۤا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْۤا
ۗ وَاذْكُرُوْۤا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ
اَعْدَآءًا ۗ فَآلَفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ
بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا ۗ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ
مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ
اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿۱۰۴﴾

TILAWAT-E-QUR'AN

SURAH AT-TAKATHUR

(Chapter 102)

1. In the name of Allah, the Gracious, the Merciful.
2. Mutual rivalry in seeking worldly increase diverts you from God
3. Till you reach the graves.
4. Nay! you will soon come to know.
5. Nay again! you will soon come to know.
6. Nay! if you only knew with certain knowledge,
7. You will surely see Hell in this very life.
8. Aye, you will surely see it with the eye of certainty.
9. Then, on that day you shall be called to account about the worldly favours.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ أَلْهَمُّ التَّكَاثُرُ

﴿٢﴾ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿٣﴾ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ

﴿٤﴾ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ

عِلْمَ الْيَقِينِ ﴿٦﴾ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴿٧﴾ ثُمَّ

لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴿٨﴾ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ

يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴿٩﴾

SURAH AL-BAQARAH

(Chapter 2, Verses 11-13)

1. In the name of Allah, the Gracious, the Merciful.
2. In their hearts was a disease, and Allah has increased their disease to them; and for them is a grievous punishment because they lied.
3. And when it is said to them: 'Create not disorder on the earth,' they say: 'We are only promoters of peace.'
4. Beware! it is surely they who create disorder, but they do not perceive it.

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١﴾ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿١٢﴾

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا

إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١٣﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ

الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٤﴾

AGE GROUP 10-12

HIFZ-E-NAZM



1. Maula mere Qadeer mere (Durre Adan)

Maula mere Qadeer mere, Kibriya mere
Pyaare mere Habeeb mere, Dilruba mere
Hai qabil-e-talab kisay duniya mein aur cheez?
Tum jaante ho, tum se siwa kaun hai azeez?
Dono jahan mein, maya-e-raahat tumhein to ho
Jo tum se maangta hoon, woh daulat tumhein to ho

مولا مرے قدیر مرے کبریا مرے
پیارے مرے حبیب مرے دلربا مرے
ہے قابلِ طلب کسے دُنیا میں اُور چیز؟
تم جانتے ہو تم سے سوا کون ہے عزیز
دونوں جہاں میں ماہِ راحت تمہیں تو ہو
جو تم سے مانگتا ہوں وہ دولت تمہیں تو ہو



2. Aye Fazle Umar (by Mubarak Ahmed Abid)

Ae Fazl-e-Umar, tere ausafay kareemana
Yaad aake banate hain har rooh ko deewana
Dhoondain to kahan dhoondain paayein
to kahan payien
Sultan-e-bayan tera andaaz khateebana
Islam ki mash'al ko duniya mein kiya roshan
Phir tune ujaagar ki sargarmiy-e- farzana

اے فضل عمر تیرے اوصاف کریمانہ
یاد آ کے بناتے ہیں ہر روح کو دیوانہ
ڈھونڈیں تو کہاں ڈھونڈیں پائیں تو کہاں پائیں
سلطانِ بیاں تیرا انداز خطیبانہ
اسلام کی مشعل کو دُنیا میں کیا روشن
پھر تو نے اجاگر کی سرگرمی فرزانہ

AGE GROUP 10-12



HIFZ-E-NAZM

3. Ik qatra uske fazl ne darya bana diya (Durre Sameen)

Ik qatra us ke fazl ne darya bana diya

اک قطرہ اُس کے فضل نے دریا بنا دیا

Main khaak tha usi ne suraiya bana diya

میں خاک تھا اسی نے ثریا بنا دیا

Main tha ghareeb o be-kas o

میں تھا غریب و بے کس و گمنام و بے ہنر

gum naam o be-hunar

کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر

Koi nah janta tha ke hai Qadian kidhar

لوگوں کی اس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی

Logon ki is taraf ko zara bhi nazar nah thi

Mere wujood ki bhi kisi ko khabar nah thi

میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی



4. Fasub hanalazi akhzal aa adi (Durre Sameen)

Humein us yaar se taqwa ata hai

ہمیں اس یار سے تقویٰ عطا ہے

Na yeh hum se ke ihsaan-e-Khuda hai

نہ یہ ہم سے کہ احسانِ خدا ہے

Karo koshish agar sidq o safa hai

کرو کوشش اگر صدق و صفا ہے

Ke yeh haasil ho jo shart-e-liqa hai

کہ یہ حاصل ہو جو شرطِ لقا ہے

Mujhe taqwa se us ne yeh jaza di

مجھے تقویٰ سے اُس نے یہ جزا دی

Fasubhanallazee akhzaal aadi

فَسُبْحَانَ الَّذِي أُنزِلَ الْأَعَادِي

AGE GROUP 10-12



HIFZ-E-NAZM

5. Qaseedah (The Promised Messiah (as))

يَا حِبِّ إِنَّكَ قَدْ دَخَلْتَ مَحَبَّةً
فِي مُهْجَتِي وَمَدَارِكِي وَجَنَانِ
مِنْ ذِكْرٍ وَجْهِكَ يَا حَادِيقَةَ بَهْجَتِي
لَمْ أَخْلُ فِي لَحْظٍ وَلَا فِي أَنْ
جِسْمِي يَطِيرُ إِلَيْكَ مِنْ شَوْقٍ عَلَا
يَا لَيْتَ كَانَتْ قُوَّةُ الطَّيْرَانِ

Ya hibbi innaka qad dakhalta mahabbatan

Fi muhjati wa madariki wa janani

Min zikri wajhika ya hadiqata bahjati

Lam akhlu fi lahzin wa la fi aani

Jismi yateeru ilayka min shawqin 'ala

Ya layta kanat quwwat ut tayraani

ENGLISH AND URDU SPEECH

ENGLISH SPEECH TOPICS

1. Islam's teachings on handling conflict
2. What does Islam say about showing respect
3. What are the blessings of Khilafat and how can we reap these?
4. How can we combat bullying in schools?
5. "And hold fast all together to the rope of Allah" (Chapter 3 verse 104)

URDU SPEECH TOPICS

1. تنازعات کو حل کرنے کے لیے اسلام کی تعلیمات
2. عزت و احترام کے بارے میں اسلام کی رائے
3. خلافت کے کیا برکات ہیں اور ہم ان سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟
4. ہم اسکولوں میں جارحانہ سلوک کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟
5. "اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لو" (Chapter 3 verse 104)